



سوال

(191) سورة اخلاص کی تلاوت کا ثواب

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

سورة اخلاص کو ایک مرتبہ مکمل پڑھنے سے ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے کیا مکمل پڑھنا "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کے ساتھ پڑھنا ہے۔؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو رات کو سوتے وقت 100 بار سورة اخلاص پڑھے تو اس پر بہت بڑے ثواب کی امید ہے۔ ازراہ کرم کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں جزاکم اللہ خیرا

الجواب بعون اللہ بمرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

1- بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البراءة یا سورة التوبة کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تر سورتوں کی پہلی آیت ہے۔ جب بھی کوئی سورة پڑھنے کا کہا جاتا ہے یا اسکے پڑھنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو وہ اسکی تمام تر آیات سمیت ہوتی ہے۔ اور اس سورت کی کوئی بھی ایک آیت چھوڑنے والا اس اجر و ثواب کا مستحق نہیں بنتا ہے۔

مزید تفصیلات کے لیے یہ درس سماعت فرمائیں :

[دین خالص || بسم اللہ الرحمن الرحیم](#)

[دین خالص || تسمیہ کے مسائل](#)

2- یہ روایت ضعیف ہے، جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن باب ماجاء فی سورة الاخلاص ح ۲۸۹۸ میں امام ترمذی نے اسے کچھ یوں نقل فرمایا ہے :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ الْبُحَيْرِيُّ عَنْ نَابِتِ بْنِ الْبَنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ مَعْنَى يَوْمِ بَاتِي صَرَةً
فَقِنَ جُؤَالَهُ أَحَدٌ مَجِي عَمْرُو دُنُوبٌ خَمْسِينَ سَمَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَمْعٌ وَبِهِدَا الْإِنْسَانِ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ



مجلس البحث والدراسات
مهدى فتوى
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

فتاویٰ علمائے

حدیث

جلد 2 کتاب الصلوٰۃ